



فیکٹ شیٹ

نیویارک اسٹیٹ ٹیورن آف ہاؤسنگ اینڈ
کمیونٹی کی تجدید کی ایک اشاعت
دفتر کرایہ انتظامیہ

26 کرایہ میں اضافے کے لئے رہنمائی مستحکم اپارٹمنٹس

ایک نظر میں

اس فیکٹ شیٹ کو اپارٹمنٹ کے کرایہ رجسٹریشن کی تاریخ کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ یہ تعین کرنے میں مدد مل سکے کہ اپارٹمنٹ کی رجسٹریشن کی حیثیت اور کرایہ حلال ہے یا نہیں۔

تعریفیں

ہاؤسنگ استحکام اور کرایہ دار تحفظ ایکٹ 2019 (HSTPA) جون 2019 سے نافذ العمل اس قانون میں تبدیلیاں کی گئیں کہ کرایوں میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے اور خالی لیزوں، میجر کیپیٹل امپروومنٹس (MCI) اور انفرادی اپارٹمنٹ امپروومنٹس (IAI) کے فارمولے تبدیل کیے گئے۔

انفرادی اپارٹمنٹ بہتری (IAIs): جب کوئی مالک کوئی نیا آلات نصب کرتا ہے یا اپارٹمنٹ میں بہتری، لاتا ہے تو مالک IAI کرایہ میں اضافے کا حقدار ہو سکتا ہے۔

اہم سرمائے کی بہتری (MCIs): بوائز، کھڑکیاں اور چھتوں جیسی وسیع بہتری۔

خالی جگہ لیز: جب ایک شخص پہلی بار کرایہ پر مستحکم اپارٹمنٹ کرایہ پر لیتا ہے تو مالک اور کرایہ دار "خالی جگہ کی لیز" پر دستخط کرتے ہیں۔

خلاصہ اور جھلکیاں

2019 کے ہاؤسنگ سٹیبلٹی اینڈ ٹیننٹ پروٹیکشن ایکٹ (HSTPA) نے اس میں تبدیلیاں کیں کہ کرایوں میں کیسے اضافہ کیا جاسکتا ہے اور خالی لیزوں، MCIs اور IAIs کے فارمولے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ MCI اور IAI کے کرایے میں اضافہ اب عارضی ہے، اور IAI کے لئے جو رقم جمع کی جاسکتی ہے وہ محدود ہے۔

اختیارات

- **خالی جگہ لیز:** HSTPA نے قانونی خالی جگہ کی شرح کو ختم کر دیا اور کرایہ رہنما خطوط بورڈوں کو ایک علیحدہ خالی شرح قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تاہم، اگر رینٹ گائیڈ لائنز بورڈ کی طرف سے مجاز ہے، مالک تمام لیزوں میں ایک یا دو سال کی گائیڈ لائن شامل کر سکتا ہے۔ مالک ایک ہی گائیڈ لائن سال کے اندر ایک سے زیادہ گائیڈ لائن ایڈجسٹمنٹ شامل نہیں کر سکتا۔
- **تجدید کی لیز:** جب کرایہ دار تجدید لیز پر دستخط کرتا ہے تو وہ ایک یا دو سال کے آپشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے اور قابل اجازت اضافہ مقامی کرایہ رہنما خطوط بورڈ کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے۔
- **بہتری:** IAIs اور/یا MCIs کے لئے قانونی کرایہ میں اضافے کو کرایہ میں اضافے کا عنصر بنایا جاسکتا ہے۔

حدود

- HSTPA کے تحت مستقبل میں MCI میں اضافے کی حدود ہیں، جیسے: سالانہ 2% کرایہ میں اضافے کی حد، صرف معقول اخراجات قابل وصول ہیں، اور MCI کرایہ میں اضافہ ان عمارتوں میں ممنوع ہے جن میں 35% یا اس سے کم کرایہ پر منظم اپارٹمنٹس ہیں۔
- 35 یونٹ یا اس سے کم والی عمارتوں میں مالکان IAI کا کرایہ بہتری کی لاگت کا 1/168th حصہ بڑھا سکتے ہیں۔
- 35 سے زائد یونٹس والی عمارتوں میں مالکان IAI کا کرایہ بہتری کی لاگت کا 1/180th حصہ تک بڑھا سکتے ہیں۔
- مالکان 15 سال کی مدت کے اندر تین سے زیادہ IAI اضافہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور کرایہ میں اضافے کے حساب کے اہل بہتری کی کل لاگت \$15,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔
- IAI کرایہ میں اضافے کے لئے کرایہ دار کی طرف سے قبضے میں فراہم کردہ تحریری رضامندی DHCR فارم پر ہونی چاہئے۔

فیکٹ شیٹ



نیویارک اسٹیٹ ٹریژن آف ہاؤسنگ اینڈ
کمپوٹی کی تجدید کی ایک اشاعت
دفتر کرایہ انتظامیہ

26 کرایہ میں اضافے کے لئے رہنمائی مستحکم اپارٹمنٹس

ہدایت

اس فیکٹ شیٹ کو نئی لیز گائیڈ لائن کی شرحوں کی عکاسی کرنے کے لئے سالانہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ اپارٹمنٹ کی کرایہ رجسٹریشن کی تاریخ کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جاسکتا ہے تاکہ یہ تعین کرنے میں مدد مل سکے کہ اپارٹمنٹ کی رجسٹریشن کی حیثیت اور وصول کیا جانے والا کرایہ حلال ہے یا نہیں۔ اپارٹمنٹ کرایہ رجسٹریشن کی تاریخ اور کرایہ اوور چارج شکایت فارم www.hcr.ny.gov یا بورو ریٹ آفس میں آن لائن درخواست کی جاسکتی ہے۔

14 جون 2019 سے نافذ العمل 2019 کے ہاؤسنگ اسٹیبلٹی اینڈ ٹیننٹ پروٹیکشن ایکٹ (HSTPA) نے اس میں تبدیلیاں کیں کہ کرایوں میں کس طرح اضافہ کیا جاسکتا ہے اور خالی جگہوں کے لیز، میجر کیپیٹل امپروومنٹس (MCI) اور انفرادی اپارٹمنٹ امپروومنٹس (IAI) کے فارمولے تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ MCI اور IAI کے کرایے میں اضافہ اب عارضی ہے اور IAI کے لئے جو رقم جمع کی جاسکتی ہے وہ محدود ہے۔ HSTPA ہائی ریٹ اسامی اور ہائی ریٹ ہائی انکم ڈیریگولیشن کو ختم کرتا ہے اور کرایہ داری کی مدت کے لئے ترجیحی کرایوں کو وصولی کی بنیاد بناتا ہے۔ یہ HSTPA کی منظوری پر یا اس کے بعد درج شکایات کے لئے کرایہ اوور چارج جائزہ کی مدت کو چار سے بڑھا کر چھ سال تک کرتا ہے۔

HSTPA سے پہلے، اپارٹمنٹس کو غیر منضبط کیا جاسکتا ہے اگر کرایہ کچھ سالانہ ایڈجسٹڈ ڈیریگولیشن کی سطح تک پہنچ جائے (اسامی کی بنیاد پر یا گھریلو آمدنی کی سطح پر)۔ ایک بار جب ایک اپارٹمنٹ کو غیر منضبط کر دیا جاتا ہے تو مالکان بازار کے کرایے وصول کرسکتے ہیں اور کرایہ دار کو کرایہ استحکام سے تحفظ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ، ایک مالک لیز کی تجدید پر کرایہ دار کا ترجیحی کرایہ قانونی منضبط کرایے پر بڑھا سکتا ہے۔ عمومی طور پر، کرایہ اوور چارج کی شکایت پر کارروائی کرتے وقت، DHCR پہلے کرایہ کی تاریخ کے پہلے چار سالوں کی جانچ تک محدود تھا اور جرمانے کا اندازہ صرف چار سال تک لگایا جاسکتا تھا۔

خالی جگہ لیز

HSTPA نے قانونی خالی جگہ کی شرح کو ختم کر دیا اور کرایہ رہنما خطوط بورڈوں کو ایک علیحدہ خالی شرح قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تاہم، اگر ریٹ گائیڈ لائنز بورڈ کی طرف سے مجاز ہے، مالک تمام لیزوں میں ایک یا دو سال کی گائیڈ لائن شامل کر سکتا ہے۔ مالک ایک ہی گائیڈ لائن سال کے اندر ایک سے زیادہ گائیڈ لائن ایڈجسٹمنٹ شامل نہیں کر سکتا۔ بڑے سرمائے کی بہتری (MCI) اور انفرادی اپارٹمنٹ امپروومنٹس (IAI) کے لئے قانونی عارضی اضافے کو بھی کرایے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

ایک DHCR کرایہ استحکام لیز رائیڈر / ایڈیٹڈ لیز کے ساتھ منسلک کیا جانا ہے اور اس میں کرایہ کا حساب کس طرح لگایا گیا تھا اور کسی بھی متعلقہ انفرادی اپارٹمنٹ بہتری پر معلومات ہونی چاہئے۔

تجدید کی لیز

جب کرایہ دار تجدید لیز پر دستخط کرتا ہے تو وہ ایک یا دو سال کے آپشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے اور قابل اجازت اضافہ مقامی کرایہ رہنما خطوط بورڈ کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے۔ (حالیہ لیز گائیڈ لائن ریٹس چارٹ دیکھیں۔)

14 جون 2019 لیز کی تجدید کے بعد ترجیحی کرایہ وصول کرنے والے مالکان قانونی شرح میں اضافے سے قانونی اور ترجیحی کرایوں میں اضافہ کرسکتے ہیں لیکن ترجیحی کرایے کی بنیاد پر صرف اضافہ جمع کرسکتے ہیں۔ اعلیٰ قانونی منضبط کرایہ اور متعلقہ اضافہ صرف اس وقت جمع کیا جاسکتا ہے جب اپارٹمنٹ خالی ہو جائے اور بعد کے کرایہ دار کو کرایہ پر دیا جائے۔ مزید تفصیلات کے لیے فیکٹ شیٹ #40 دیکھیں۔

انفرادی اپارٹمنٹ بہتری (IAI)

جب کوئی مالک کوئی نیا آلات نصب کرتا ہے یا اپارٹمنٹ میں بہتری لاتا ہے تو مالک IAI کرایہ میں اضافے کا حقدار ہوسکتا ہے۔ بہتری اور کرایہ میں اضافے کے لئے کرایہ دار کی تحریری رضامندی صرف اس صورت میں درکار ہے جب اپارٹمنٹ میں بہتری کے وقت کرایہ دار کا قبضہ ہو۔ خالی اپارٹمنٹ کے لئے تحریری رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔

35 یونٹ یا اس سے کم والی عمارتوں میں IAI کے لئے کرایہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ رقم بہتری کی لاگت کے 1/168th حصے تک محدود ہے۔ 35 یونٹ سے زائد یونٹ والی عمارتوں میں IAI کے لئے کرایہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جو بہتری کی لاگت کے 1/180th حصے تک محدود ہے۔

15 سال کی مدت میں IAI میں تین سے زیادہ اضافہ جمع نہیں کیا جا سکتا اور کرایہ میں اضافے کے حساب کے اہل بہتری کی کل لاگت \$15,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کام لائسنس یافتہ ٹھیکیدار کے ذریعہ کیا جانا چاہئے اور ٹھیکیدار اور مالک کے درمیان مشترکہ ملکیت پر پابندی ہے۔ اپارٹمنٹ کسی بھی غیر معمولی خطرناک اور فوری طور پر خطرناک خلاف ورزیوں سے آزاد اور صاف ہونا چاہئے۔ کرایہ دار کی طرف سے قبضے میں فراہم کردہ تحریری رضامندی DHCR فارم پر ہونی چاہئے۔ انگریزی کے علاوہ بولی جانے والی سرفہرست 6 زبانوں میں ترجمہ شدہ ورژن DHCR کی ویب سائٹ پر جائزے کے لئے دستیاب کرایا جائے گا۔ مالکان کو IAI کی تمام تنصیبات کے لئے معاون دستاویزات اور تصاویر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، جو 14 جون 2020 سے شروع ہوں گی، DHCR کے ذریعہ الیکٹرانک فارمیٹ میں جمع کرائی جائیں گی اور ذخیرہ کی جائیں گی۔ 14 جون 2019 کے بعد جمع کی گئی بہتری کے لئے IAI کرایہ میں اضافہ عارضی ہے اور اسے 30 سال میں کرایے سے ہٹانا ضروری ہے اور اس وقت گائیڈ لائن میں اضافے کے لئے قانونی کرایہ کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے جو پہلے کرایے پر مرکب تھا جس میں IAI بھی شامل تھا۔

خالی لیز کے ساتھ شامل DHCR لیز رائیڈر کو کرایہ دار کو لیز کی پیشکش کے وقت یا لیز پر عمل درآمد کے 60 دن کے اندر تصدیق شدہ میل انفرادی اپارٹمنٹ امپروومنٹس (IAIs) کی معاونت کرنے والی دستاویزات کے ذریعے مالک سے درخواست کرنے کے حق کے بارے میں مطلع کرنا ہوگا۔ مالک اس درخواست کے 30 دن کے اندر ذاتی طور پر یا تصدیق شدہ ڈاک کے ذریعے ایسی دستاویزات فراہم کرے گا۔ ایک کرایہ دار جسے طلب پر یہ دستاویزات فراہم نہیں کی جاتی ہیں وہ فارم RA-90 "کرایہ دار کی لیز کی تجدید میں ناکامی اور/یا دستخط شدہ لیز کی کاپی پیش کرنے میں ناکامی" کا فارم داخل کر سکتا ہے تاکہ DHCR آرڈر حاصل کیا جا سکے جو IAI کی معاونت کرنے والی دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ IAI کرایہ میں اضافہ جمع نہیں کیا جا سکتا اگر DHCR کا کم خدمات کے لئے کرایہ کم کرنے کا حکم نافذ العمل ہے اور اس کی پہلے سے موثر تاریخ ہے۔ اسے کرایہ بحال کرنے کے DHCR آرڈر کی موثر تاریخ پر متوقع طور پر جمع کیا جاسکتا ہے۔

اہم سرمائے کی بہتری (MCI)

ایک مالک کو عمارت کے وسیع بڑے سرمائے کی بہتری کے اخراجات کی وصولی کے لئے کرایہ میں اضافے کی اجازت ہے، جیسے بوائلر کی تبدیلی یا نئی پلمبنگ۔ مالک کو DHCR کے پاس درخواست دائر کرنی چاہئے اور DHCR اس اضافے سے انکار کرنے یا جزوی یا مجموعی طور پر اضافہ دینے کا حکم جاری کر سکتا ہے۔ MCI درخواست کا جائزہ لینے کے بعد DHCR ایک حکم جاری کرے گا اور اسے مالک اور عمارت کے تمام کرایہ داروں پر پیش کرے گا۔

HSTPA کے تحت مستقبل میں MCI میں اضافے کی حدود ہیں، جیسے: صرف معقول اخراجات قابل وصول ہیں، اور MCI کرایہ میں اضافہ ان عمارتوں میں ممنوع ہے جن میں 35% یا اس سے کم کرایہ پر منظم اپارٹمنٹس ہیں۔ DHCR کے حکم سے منظور شدہ کرایہ میں اضافہ متوقع طور پر جمع کیا جا سکتا ہے، اجراء کے 60 دن بعد پہلے مہینے کے پہلے دن۔ کرایہ میں کوئی سابقہ اضافہ نہیں ہے۔ اضافے کا مجموعہ 2% کیپ/سالانہ فیز ان تک محدود ہے۔ 2% کی حد کا اطلاق MCI کے کرایے میں اضافے پر بھی ہوتا ہے جو ابھی تک جمع نہیں کیا گیا ہے جو 14 جون 2012 کو یا اس کے بعد منظور کیا گیا تھا۔ 14 جون 2019 کے بعد نافذ ہونے والی پہلی تجدید لیز میں 2% سے زیادہ اضافے کی عکاسی نہیں ہونی چاہیے۔ خالی ہونے پر، اضافے کا بقیہ توازن قانونی کرایے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ 35 یا اس سے کم یونٹوں والی عمارتوں میں MCI کی لاگت 12 سال کی مدت کے دوران ختم ہو جاتی ہے۔ 35 یونٹسے زائد یونٹوں والی عمارتوں میں MCI کی لاگت 12 ½ سال سے زیادہ ہے۔ عمارت کو کسی بھی غیر معمولی خطرناک اور فوری طور پر خطرناک خلاف ورزیوں سے آزاد اور صاف ہونا چاہئے۔ MCI کرایہ میں اضافہ عارضی ہے اور اسے 30 سال میں کرایے سے ہٹانا ہوگا اور اس وقت گائیڈ لائن میں اضافے کے لئے قانونی کرایہ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا جو پہلے کرایہ پر مرکب تھا جس میں MCI کرایہ میں اضافہ بھی شامل تھا۔ خالی جگہ لیز کرایہ داروں کو زیر التوا MCI درخواستوں کے بارے میں ان کی لیز میں مطلع کیا جانا ہے۔

حالیہ لیز گائیڈ لائن کی شرحیں

- 2019 کے ہاؤسنگ سٹیبلٹی اینڈ ٹیننٹ پروٹیکشن ایکٹ (HSTPA) کی موثر تاریخ سے قبل 14 جون 2019 کو ان رہنما خطوط کا اطلاق صرف لیز کی تجدید پر ہوا۔
- 14 جون 2019 کے بعد اگر رینٹ گائیڈ لائنز بورڈ کی طرف سے مجاز کیا جاتا ہے تو گائیڈ لائن کی شرحیں تمام لیزوں پر لاگو ہوسکتی ہیں۔

| Westchester (کرایہ دار یا تو گرمی یا گرم پانی ادا کرتا ہے) | | Westchester | | Rockland | | Nassau | | NYC | | تجدید لیز کی موثر تاریخ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | |
| 2.20% | 1.40% | 2.75% | 1.75% | + 1.50% \$25.00 کرایہ کے لئے \$950.00 یا کم | + 1.25% \$25.00 کرایہ کے لئے \$950.00 یا کم | 1.75% | 1.25% | 2.00% | 0.00% | 9/30/16-10/1/15 |
| 0.40% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.50% | 2.00% | 0.00% | 9/30/17-10/1/16 |
| 1.20% | 0.80% | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 1.25% | 9/30/18-10/1/17 |
| 2.40% | 1.60% | 3.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 6/13/19-10/1/18 |
| 0.80% ¹ | 0.00% ¹ | 1.00% ¹ | 0.00% ¹ | | | | | | | |
| 2.40% | 1.60% | 3.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 9/30/19-6/14/19 |
| 0.80% ¹ | 0.00% ¹ | 1.00% ¹ | 0.00% ¹ | | | | | | | |
| 2.75% | 1.75% | 2.75% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 2.50% ^G | 1.50% ^G | 2.50% | 1.50% | 9/30/20-10/1/19 |
| 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^G | 0.00% ^{G,2} | 0.00% ^G | 9/30/21-10/1/20 |
| | | | | | | | | 1.00% ^{G,2} | | |
| 1.00% ^G | 0.50% ^G | 1.00% ^G | 0.50% ^G | 0.75% ^G | 0.50% ^G | 2.00% ^G | 1.00% ^G | 2.50% ^G | 1.50% ^{G,3} | 9/30/22-10/1/21 |
| 3.00% ^G | 2.00% ^G | 3.00% ^G | 2.00% ^G | 0.75% ^G | 0.50% ^G | 3.50% ^G | 2.00% ^G | 5.00% ^G | 3.25% ^G | 9/30/23-10/1/22 |

^G گائیڈ لائن میں اضافہ تمام لیزوں کے لئے مجاز ہے۔

¹ یہ اضافہ صرف ویسٹچیسٹر کاؤنٹی کے اندر اوسیننگ گاؤں پر لاگو ہوتا ہے۔

² لیز کے پہلے سال کے لئے 0% اور لیز کے دوسرے سال کے لئے 1%۔

³ لیز کے پہلے چھ (6) مہینوں کے لئے 0% اور لیز کے آخری چھ (6) مہینوں کے لئے 1.5%۔

تاریخی خالی جگہ لیز کی شرح

• ہاؤسنگ اسٹیبلٹی اینڈ ٹیننٹ پروٹیکشن ایکٹ 2019 کے مطابق، جو 14 جون 2019 سے نافذ العمل ہے، اب کوئی علیحدہ قانونی خالی جگہ کی شرح یا ایک علیحدہ رینٹ گائیڈ لائنز بورڈ کی خالی شرح نہیں ہے۔

| Westchester (کرایہ دار یا تو گرمی یا گرم پانی ادا کرتا ہے) | | Westchester | | Rockland | | Nassau | | NYC | | خالی جگہ لیز کی موثر تاریخ |
|--|--------|-------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | سال 2 | سال 1 | |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 18.00% | 9/30/13 ¹ - 10/1/12 |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 18.50% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 16.25% | 9/30/14 ¹ - 10/1/13 |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 17.50% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 18.25% | 9/30/15 ¹ - 10/1/14 |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.75% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 18.00% | 9/30/16 ¹ - 10/1/15 |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 18.00% | 9/30/17 ¹ - 10/1/16 |
| 20.00% | 19.50% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 19.50% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 19.25% | 9/30/18 ¹ - 10/1/17 |
| 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 19.00% | 20.00% | 19.00% | 6/13/19 ¹ - 10/1/18 |

¹ 14 جون 2019 سے قبل، 2015 کے کرایہ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر پہلے کرایہ دار کی طرف سے ترجیحی کرایہ وصول کیا گیا تھا اور ادا کیا گیا تھا، تو مالک قانونی منضبط کرایہ میں درج ذیل میں سے کسی ایک سے زیادہ اضافہ کرنے کا حقدار ہے:

| آخری خالی جگہ لیز شروع: | خالی جگہوں میں اضافہ: |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 2 سال سے بھی کم عرصہ پہلے | 5% |
| 3 سال سے بھی کم عرصہ پہلے | 10% |
| 4 سال سے بھی کم عرصہ پہلے | 15% |
| 4 سال یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے | 20% (دو سالہ لیز کے لئے) یا |

اوپر جدول میں موثر تاریخ اور کاؤنٹی کے لئے درج % (ایک سال کی لیز کے لئے)

مزید معلومات یا معاونت کے لیے، آپ اپنے بورو ریونٹ آفس کا دورہ کرسکتے ہیں۔

Queens

92-31 Union Hall Street
6th Floor
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan

25 Beaver Street
New York, NY 10004

Brooklyn

55 Hanson Place
6th Floor
Brooklyn, NY 11217

Bronx

1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

Upper Manhattan

163 W. 125th Street
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester

75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601